

English Sentences For Food

In this article, we are going to discuss sentences about Food in English detail. These sentences are very important in everyday spoken English. With the help of these phrases, you can strengthen everyday English and even speak without hesitation. These phrases will greatly improve your English and you will be able to speak English without any hassle. Let's incorporate these phrases into our daily routine so that our dream of speaking English can come true. Make your precious time more valuable and spend it on learning these phrases. With God's help, you will begin to speak English fluently.

Sentences For Food

I have eaten fill to my tummy.	میں بھر کر کھانا کھا چکا ہوں۔
My mouth is watering.	منہ میں پانی آرہا ہے۔
He is starving.	وہ بھوک سے مر رہا ہے۔
He eats boiled eggs.	میں گاڑی چلار ہا ہوں۔
I'm vegetarian.	میں سبزی خور ہوں۔
She has served the meal.	اس نے کھانا پیش کیا ہے۔
There is less salt in the curry.	میں اس کی مدد کر رہا ہوں۔
Take a bite to eat.	کھانے کے لیے ایک نوالہ لیں۔
He is addicted to tea.	وہ چائے کا عادی ہے۔
Pour some more pulse.	کچھ اور دال ڈالیں۔
The meal was mouth-watering.	کھانا منہ میں پانی لانے والا تھا۔
He left a morsel in the dish.	اس نے پلیٹ میں لقمہ دیا۔
He eats meals slowly.	وہ کھانا آہستہ آہستہ کھاتا ہے۔
Wash your hand before taking meal.	کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے۔
Have you eaten food	آپ نے کھانا کھا لیا ہے؟
The meal was very savory.	کھانا بہت لذیذ تھا۔

He thrown the left over into dustbin.	اس نے بچا ہوا کھانا کوڑے دان میں پھینک دیا۔
We should not eat unhealthy food.	ہمیں غیر صحت بخش کھانا نہیں کھانا چاہیے۔
There is no sugar in tea.	چائے میں چینی نہیں ہے۔
I'm unable to eat more.	میں زیادہ کھانے سے قاصر ہوں۔
She avoids fast food.	وہ چٹ پٹ کھانے سے پرہیز کرتی ہے۔

Chew the food properly.	کھانے کو اچھے سے چباؤ۔
Do not talk with your mouth full.	منہ بھر کر بات نہ کریں۔
Tea/cold drinks necessary after meal.	چائے/بوٹل کھانے کے بعد ضروری ہے۔
I always simple diet.	میں ہمیشہ سادہ خوراک کھاتا ہوں۔
I also like fried fish.	میں تلی ہوئی مچھلی بھی پسند کرتا ہوں۔
I am not hungry.	مجھے بھوک نہیں ہے۔
Please take tea.	چائے نوش فرمائیے۔
Put sugar in the cup.	پیالی میں چینی ڈالو۔
I am feeling thirsty.	مجھے پیاس لگ رہی ہے۔
I like sweet dishes.	مجھے میٹھا کھانا بہت پسند ہے۔
He had his fill.	اس کا پیٹ بھر گیا تھا۔
It is time for dinner.	اب کھانے کا وقت ہے۔

I do not like curd.	میں دہی پسند نہیں کرتا۔
Please beat these eggs.	یہ انڈے پھینٹ دو۔
Rice and curry is my favorite food.	چاول اور سالن میری پسندیدہ خوراک ہے۔
He can not digest beef.	وہ گائے کا گوشت ہضم نہیں کر سکتا۔
Food is being served.	کھانا کھلا یا جا رہا ہے۔
You should simple diet.	تمہیں سادہ خوراک کھانی چاہیے۔
I always take light diet.	میں ہمیشہ ہلکی غذا کھاتا ہوں۔
This bread is overbaked.	یہ روٹی ضرورت سے زیادہ پکائی گئی ہے۔
He doesn't chew his food.	وہ اپنا کھانا نہیں چباتا۔
Peel these oranges, please.	برائے مہربانی ان سنتر یوں کو چھیل دو۔
Ali doesn't like buttered bread.	علی کو مکھن والی روٹی پسند نہیں ہے۔
These grapes are sour.	یہ انگور بہت کٹھے ہیں۔
Meat is over cooked.	گوشت تو جل گیا ہے۔
Mince meat is not yet ready.	کیا گوشت ابھی تک تیار نہیں ہوا۔
The dish is strongly spiced.	ڈش سخت مسالہ دار ہے۔
I do not like dainty dishes.	مجھے لذیذ پکوان پسند نہیں ہیں۔
I had no breakfast today.	میں نے آج ناشتہ نہیں کیا۔

He feels very hungry.	اسے بہت بھوک لگتی ہے۔
Are you vegetarian?	کیا آپ سبزی خور ہیں؟
Meat is my favorite dish.	گوشت میرا پسندیدہ کھانا ہے۔
He is very fond of roasted meat.	اسے بھنا ہوا گوشت بہت پسند ہے۔
Soup is very delicious.	شوربہ بہت مزے دار ہے۔
He is a glutton.	وہ بڑا بیٹو ہے۔
I have taken breakfast.	میں نے ناشتہ کر لیا ہے۔
Do you eat rice?	کیا آپ چاول کھاتے ہیں؟
Where do you take your lunch?	آپ دوپہر کا کھانا کہاں کھاتے ہیں۔
The meat is little under spiced.	گوشت تھوڑا سا مسالہ دار ہے۔
Vegetables is over spiced today	آج سبزی زیادہ مسالہ دار ہے۔

Have you eaten food?	کیا تم نے کھانا کھایا ہے؟
He belched after taking the meal?	اس نے کھانا کھانے کے بعد ڈکار مارا۔
He left a morsel in the dish.	اس نے پلیٹ میں لقمہ بچا دیا۔
Please, have some more.	براہ کرم، کچھ اور لے لو۔
Please, help yourself	پلیز خود ہی لیجیے۔
Please, pass me the salt.	پلیز، نمک ادھر کرنا۔
Wash your hand before taking meal.	کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے۔
What did you eat today?	آج کیا کھایا؟
What will you eat now?	اب آپ کیا کھاؤ گے۔
You have hardly eaten anything.	آپ نے شاید ہی کچھ کھایا ہو۔
He is an foodie.	وہ خوش خوراک ہے
Please heat this up.	مہربانی کر کے یہ گرم کر دیں
He bought me peanut.	اس نے مجھے مونگ پھلی خرید کے دی۔
This odor is very appetizing.	یہ مہک بہت بھوک بڑھانے والی ہے۔